

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ

24 جون 2020

پریس ریلیز

**فیکلٹی آف ڈنٹسٹری، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء نے ایم ڈی ایس انٹرنس امتحانات 2020 میں
لہرایا کامیابی جھنڈا ایک مرتبہ پھر**

بیچلر ڈینٹل سرجری (بی ڈی ایس) کے فیکلٹی آف ڈینٹسٹری (ایف او ڈی) ، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے فارغ التحصیل طلباء نے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمز) کے زیر اہتمام ڈینٹل سرجری (ایم ڈی ایس) کے قومی سطح کے داخلہ امتحان میں دوبارہ اپنے ادارہ کا نام روشن کیا۔ ایف او ڈی کے 4 فارغ التحصیل طلباء نے دوسرے نمبر پر ٹاپر سمیت داخلہ ٹیسٹ میں کامیابی کا جھنڈا لہرایا۔ - رواں سال مختلف قومی سطح کے ایم ڈی ایس انٹری ٹیسٹ میں ایف او ڈی کے مجموعی طور پر 15 گریجویٹس نے کامیابی حاصل کی۔

ایمز کے داخلہ امتحان میں ڈاکٹر ورتیکا چڈھا نے دوسرا رینک حاصل کیا جبکہ ڈاکٹر سحرش خان اور ڈاکٹر تانیا بترا نے بالترتیب گیارہویں اور بارہویں نمبریں حاصل کئے۔ ڈاکٹر محمد ارشد نے اسی امتحان کے او بی سی زمرے میں آٹھویں رینک حاصل کیا۔

اس سال کے شروع میں ، ہندوستان کے مختلف سرکاری کالجوں میں بھی ایم ڈی ایس کے داخلے کے لئے نیٹ - پی جی امتحان میں ایف او ڈی کے طلباء نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔

ڈاکٹر جیا پانڈے (رینک 59) اور ڈاکٹر زینب کمال (رینک 82) دونوں نے مولانا آزاد انسٹی ٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز ، نئی دہلی میں پیرویوڈونٹکس میں ایم ڈی ایس کی نشست حاصل کی۔ وہیں ڈاکٹر راہیکا گپتا (رینک 180) کو بھی اسی انسٹی ٹیوٹ میں پبلک ہیلتھ ڈینٹسٹری میں ایم ڈی ایس کے لئے منتخب کیا گیا۔ ڈاکٹر وسندھرا پرکاش (رینک 306) کو جی ڈی سی ، جے پور میں پیرویوڈونٹکس میں ایم ڈی ایس کے لئے منتخب کیا گیا۔

ڈاکٹر صائمہ بشیر کو آر احمد ڈینٹل کالج ، کولکاتہ اور ڈاکٹر تبسم کو بنارس ہندو یونیورسٹی (بی ایچ یو) میں ایم ڈی ایس کے لئے اورل پیتھولوجی میں منتخب کیا گیا۔ ڈاکٹر سکیش کمار نے روہتک کے پوسٹ گریجویٹ انسٹی ٹیوٹ (پی جی آئی) میں انڈوڈونٹکس میں ایم ڈی ایس اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔

اس سال جو طلباء نجی کالجوں میں ایم ڈی ایس میں منتخب ہوئے ہیں ان میں ڈاکٹر عائشہ انصاری (سبھارتی ڈینٹل کالج میں اینڈوڈونٹکس) ، ڈاکٹر شاکر خان (سری بانکی بہاری ڈینٹل کالج میں اینڈوڈونٹکس) ، ڈاکٹر فرحین احمد اور ڈاکٹر نیتو پانڈے (کوڈیوالپیر یوڈونٹکس، ڈینٹل کالج) شامل ہیں۔

پروفیسر ڈاکٹر سنجے سنگھ ، ڈین ، ایف او ڈی ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ان تمام طلباء کو مبارکباد پیش کی جنہوں نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے سخت محنت کی اور ایم ڈی ایس کے لیے

مستقبل میں خواہشمندوں کو اس کی پیروی کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی کامیابیوں سے ان کے اور ان کے والدین کا ہی نام روشن نہیں ہوتا بلکہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا اس سال زیادہ تر طلباء کی ایک ہی سال میں ایم ڈی ایس کے داخلہ امتحانات (سرکاری کالجوں میں 11 اور نجی کالجوں میں 4) کلینر کرنے والے طلباء کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔

انہوں نے کہا کہ طلباء کسی بھی روح ہوتے ہوتے ہیں اور ایف او ڈی ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء نے مسلسل کامیابیوں سے اپنے ادارہ کا نام روشن کیا ہے جس کے لئے یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں -

احمد عظیم
پی ار او - میڈیا کوآرڈینیٹر